



## سوال

اللہ کے ناموں یا صفات کا انکار کفر ہے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء یا صفات میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا جائے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس انکار کی دو قسمیں ہیں:

### انکار تکذیب:

یہ بلاشک و شبہ کفر ہے۔ اگر کوئی شخص کتاب و سنت میں ثابت شدہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی اسم یا صفات میں سے کسی صفت کا انکار کر دے، مثلاً: وہ یہ کہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، تو تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کسی خبر کی تکذیب کرنا ایسا کفر ہے جو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔

### انکار تاویل:

یعنی انکار تو نہ کرے مگر تاویل سے کام لے۔ اس کی درج ذیل دو قسمیں ہیں:

اس تاویل کی عربی زبان میں گجائش ہو تو یہ موجب کفر نہیں ہے۔

عربی زبان میں اس تاویل کی گجائش نہ ہو تو یہ موجب کفر ہے۔

کیونکہ جب زبان میں اس کی گجائش نہ تھی تو یہ تکذیب ہو گئی جیسے کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ تو حقیقت میں کوئی ہاتھ ہے اور نہ یہ نعمت یا قوت کے معنی میں ہے تو یہ کافر ہے کیونکہ اس نے مطلق نفی کر دی ہے اور یہ حقیقتاً تکذیب کرنے والا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص ارشاد باری تعالیٰ:



پل یداہُ بسوْطتانِ .. ۶۴ ... سورة المائدة

”بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔“

کے بارے میں یہ کہے کہ دونوں ہاتھوں سے مراد آسمان اور زمین ہیں تو وہ بھی کافر ہے کیونکہ از روئے لغت یہ معنی صحیح نہیں ہیں اور نہ شرعی حقیقت ہی کا یہ تقاضا ہے، لہذا یہ معنی بیان کرنے والا بھی منکر اور کذب ہی قرار پائے گا۔

ہاں اگر وہ یہ کہے کہ **يَدٌ** سے مراد نعمت یا قوت ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ **يَدٌ** کا لفظ عربی زبان میں نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے:

وَكَمْ لظلام الليلِ عندك من يدٍ

تُحدثُ انَّ المانويةً تكذبُ

”رات کی تاریکی کے تم پر کتنے احسانات ہیں، جو یہ بیان کرتے ہیں کہ ”مانویہ“ جھوٹ بولتے ہیں۔“

اس شعر میں **يَدٌ** کا لفظ نعمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے کیونکہ مانویہ فرقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظلمت اور تاریکی سے خیر پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ اس سے شر ہی جنم لیتا ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ ارکانِ اسلام

عقائد کے مسائل: صفحہ 90